





مثالی معمولات




وزن اٹھانے والے ایریا کی اچھی طرح حد بندی کریں اور اس کے اردگرد واضح اعلانات نصب کریں۔ یقینی بنائیں کہ وزن اٹھانے کے دوران (کروین آپریٹر کے علاوہ) کوئی فرد اس ایریا میں موجود نہ ہو۔




یقینی بنائیں کہ ملٹی پل سلنگ لیگ کے درمیان زاوے کے نتیجے میں کسی بھی ملٹی پل سلنگ لیگ پر ورکنگ لوڈ مقررہ حد سے زیادہ نہ ہو۔




یقینی بنائیں کہ تمام لفٹنگ گیٹرز درست سرٹیفیکیٹ کے ساتھ جاری کیے گئے ہیں؛ گیٹرز پر ورکنگ لوڈ کی حد واضح طور پر درج ہے اور گیٹرز کو اسی طرح کے دیگر گیٹرز سے علیحدہ رکھنے کے لیے نشان لگایا گیا ہے۔ ہر مرتبہ استعمال سے پہلے لفٹنگ گیٹرز کا اچھی طرح معائنہ کیا جائے۔



اپنے کام میں مہارت رکھنے والے رگرز کو مقرر کریں جو ہر مرتبہ لفٹنگ سے پہلے لوڈز کی درست انداز میں سلنگ یقینی بنائیں اور رکنگ اور لوڈنگ کی صورت حال کا معائنہ کریں۔ یقینی بنایا جائے کہ لوڈ کا ہر حصہ متوازن اور اچھی طرح سے بندھا ہو تاکہ لفٹنگ کے دوران کسی چیز کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔



کسی باصلاحیت فرد کے ہاتھوں فرد کا باقاعدگی سے معائنہ کروائیں جو اس کے سیفٹی فیچرز، جب، ہائیڈرولک سلڈز، تاروں اور آٹومیٹک سیف لوڈ انڈیکیٹر کی درستگی یقینی بنائے۔



ہر کام کے حوالے سے خطرے کی جانچ انجام دیں، لفٹنگ کا واضح پلان اور طریقہ ترتیب دیں اور ہر مرتبہ لفٹنگ سے پہلے تمام فرنٹ لائن سٹاف کو اس سے آگاہ کریں۔



اعلان

اگرچہ اس اشاعت میں درج تمام تر معلومات کی درستگی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی ہے، تاہم CIC فارنین خود بھی، جہاں ضرورت ہو، پروفیشنل ایڈوائزرز سے مشورہ لیں اور اس اشاعت کو پروفیشنل کے مشورے اور رہنمائی کا متبادل خیال مت کریں۔
© 2017 کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل۔

پتہ: 38/F, COS Centre
56 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon
ٹیلیفون: (852) 2100 9000
فیکس: (852) 2100 9090
ای میل: enquiry@cic.hk